

# قرآن مجید

لفظی ترجمہ

قَالَ فَبَا خَطْبِكُمْ

پارہ 27

eParah

قَالَ	فَمَا	خَطْبُكُمْ	أَيُّهَا الرُّسُلُونَ 31	قَالُوا	إِنَّا	أَرْسَلْنَا
اس نے کہا	تو کیا	معاملہ ہے تمہارا	اے بھیجے جانے والو (فرشتو)	انہوں نے کہا	بے شک ہم	بھیجے گئے ہم
إِلَى قَوْمٍ	مُّجْرِمِينَ 32	لِنُرْسِلَ	عَلَيْهِمْ	حِجَارَةً	مِّنْ طِينٍ 33	لَّا
طرف ان لوگوں کے	جو مجرم ہیں	تا کہ ہم بھیجیں	ان پر	پتھر	مٹی کے	لا
مُسَوَّمَةً	عِنْدَ رَبِّكَ	لِلْمُسْرِفِينَ 34	فَاخْرَجْنَا	مَنْ	كَانَ	تَحَا
نشان زدہ	تیرے رب کے ہاں سے	حد سے بڑھنے والوں کے لیے	تو نکال لیا ہم نے	جو کوئی	تھا	تھا
فِيهَا	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 35	فَمَا	وَجَدْنَا	فِيهَا	غَيْرَ	بَيْتٍ
اس میں	مومنوں میں سے	تو نہ	پایا ہم نے	اس میں	سوائے	ایک گھر کے
مِّنَ الْمَسْلُومِينَ 36	وَتَرَكْنَا	فِيهَا	آيَةً	لِّلَّذِينَ	يَخَافُونَ	لَا
مسلمانوں میں سے	اور چھوڑ دی ہم نے	اس میں	ایک نشانی	ان لوگوں کے لیے جو	ڈرتے ہیں	لا
الْعَذَابِ	الْأَلِيمِ 37	وَفِي مُوسَى	إِذْ	أَرْسَلْنَاهُ	إِلَى فِرْعَوْنَ	لَا
عذاب	دردناک سے	اور موسیٰ میں (نشانی ہے)	جب	بھیجا ہم نے اسے	طرف فرعون کے	لا
بِسُلْطٰنٍ	مُّبِينٍ 38	فَتَوَلَّى	بِرُكْنِهِ	وَقَالَ	سِحْرٌ	أَوْ
ساتھ دلیل	کھلی کے	تو اس نے منہ موڑ لیا	بوجہ اپنی قوت کے	اور وہ کہنے لگا	جادوگر ہے	یا
مَجْنُونٌ 39	فَاخَذْنَاهُ	وَجُنُودَهُ	فَنَبَذْنَاهُمْ	فِي الْيَمِّ	وَهُوَ	لَا
مجنون	تو پکڑ لیا ہم نے اسے	اور اس کے لشکروں کو	تو پھینک دیا ہم نے انہیں	سمندر میں	اور وہ	لا
مَلِيْمٌ 40	وَفِي عَادٍ 40	إِذْ	أَرْسَلْنَا	عَلَيْهِمُ	الرِّيحَ الْعَقِيمَ 41	ج
ملامت زدہ تھا	اور عاد میں (نشانی ہے)	جب	بھیجا ہم نے	ان پر	ہوا	باجھ کو
مَا تَذَرُ	مِنْ شَيْءٍ	أَتَتْ	عَلَيْهِ	إِلَّا	جَعَلْتَهُ	كَالرَّمِيمِ 42
نہ	اس نے چھوڑا	وہ آئی	جس پر	مگر	اس نے کر دیا اسے	بوسیدہ ہڈی کی طرح

وَفِي شُورٍ	إِذْ	قِيلَ	لَهُمْ	تَمَتَّعُوا	حَتَّىٰ حِينٍ ④٣	فَعَتَوْا
اور شورو میں (نشانی ہے)	جب	کہا گیا	ان سے	تم فائدہ اٹھا لو	ایک وقت تک	تو انہوں نے سرکشی کی
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ	فَاخَذَتْهُمْ	الصُّعْقَةُ	وَهُمْ	يَنْظُرُونَ ④٤	فَمَا	
اپنے رب کے	تو پکڑ لیا انہیں	بجلی کی کڑک نے	اس حال میں کہ وہ	وہ دیکھ رہے تھے	تو نہ	
اسْتَطَاعُوا	مِنْ قِيَامٍ	وَمَا	كَانُوا	مُنْتَصِرِينَ ④٥	وَقَوْمَ نُوْحٍ	
وہ استطاعت رکھتے تھے	کھڑے ہونے کی	اور نہ	تھے وہ	بدلہ لینے والے	اور قوم نوح	
مَنْ قَبْلُ ٤	إِنَّهُمْ	كَانُوا	قَوْمًا	فَسِقِينَ ④٦	وَالسَّاءِ	بَنَيْنَاهَا
اس سے قبل	بے شک وہ	تھے وہ	لوگ	فاسق	اور آسمان	بنایا ہم نے اسے
بِأَيْدِي	وَأِنَّا	لَكُوسِعُونَ ④٧	وَالْأَرْضِ	فَرَشْنَاهَا	فَنِعْمَ	
ساتھ قوت کے	اور بے شک ہم	البتہ وسعت دینے والے ہیں	اور زمین کو	بچھایا ہم نے اسے	تو کتنے اچھے	
الْبَهْدُونَ ④٨	وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ	خَلَقْنَا	زُوجَيْنِ	لَعَلَّكُمْ	تَذَكَّرُونَ ④٩	
ہموار کرنے والے ہیں	اور ہر چیز سے	بنائے ہم نے	جوڑے	تا کہ تم	تم نصیحت پکڑو	
فَفِرُّوْا	إِلَى اللَّهِ ٥	إِنِّي	لَكُمْ	مِّنْهُ	نَذِيرٌ	مُّبِينٌ ⑤٠
پس دوڑو	طرف اللہ کے	بے شک میں	تمہارے لیے	اس کی طرف سے	ڈرانے والا ہوں	کھلم کھلا
وَلَا تَجْعَلُوا	مَعَ اللَّهِ	إِلَهًا	آخَرَ ٥	إِنِّي	لَكُمْ	مِّنْهُ
اور نہ	تم بناؤ	ساتھ	اللہ کے	اللہ	کوئی دوسرا	بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے
نَذِيرٌ	مُّبِينٌ ⑤١	كَذَلِكَ	مَا	آتَىٰ	الَّذِينَ	مِنْ قَبْلِهِمْ
ڈرانے والا ہوں	کھلم کھلا	اسی طرح	نہیں	آیا	ان کے پاس جو	ان سے پہلے تھے
مِّنْ رَّسُولٍ	إِلَّا	قَالُوا	سَاجِرٌ	أَوْ	مَجْنُونٌ ⑤٢	أَتَوَاصُوا
کوئی رسول	مگر	انہوں نے کہا	جادوگر ہے	یا	مجنون	کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے

بِهٖ ٥٣	بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٥٣	فَقَتَلْنَا عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ	اس کی	بلکہ	وہ	لوگ ہیں	سرکش	پس منہ موڑ لیجیے	ان سے	پس نہیں	آپ
---------	------------------------------	-----------------------------------	-------	------	----	---------	------	------------------	-------	---------	----

بِسُلُومٍ ٥٤	وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥٥	وَمَا	قابل ملامت	اور نصیحت کیجیے	پس بے شک	نصیحت	وہ فائدہ دیتی ہے	مومنوں کو	اور نہیں
--------------	---	-------	------------	-----------------	----------	-------	------------------	-----------	----------

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦	مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ	پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری نہیں میں چاہتا ان سے
---	----------------------	---

مَنْ رَزَقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ٥٧	هُوَ	کوئی رزق اور نہیں میں چاہتا کہ وہ کھلائیں مجھے بے شک اللہ وہی ہے
---	------	--

الرِّزْقِ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِّينِ ٥٨	فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا	خوب رزق دینے والا قوت والا نہایت مضبوط تو بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ ہے
---	-------------------------------------	---

مِثْلَ ذُنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ٥٩	فَوَيْلٌ	مانند حصے کے ان کے ساتھیوں کے پس نہ وہ جلدی طلب کریں مجھ سے پس ہلاکت ہے
---	----------	---

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ٦٠	ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیئے جاتے ہیں
---	---

آيَاتُهَا: 49	سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ 76	رُكُوعَاتُهَا: 2
---------------	--------------------------------	------------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
---------------------------------------	--	--

وَالطُّورِ ١	وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٢	فِي رَقٍ مَنشُورٍ ٣	وَالْبَيْتِ
قسم ہے طور کی اور کتاب	لکھی ہوئی کی ورق میں	کھلے ہوئے اور گھر کی	

الْمَبْعُورِ ٤	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦	إِنَّ
جو آباد ہے اور چھت کی جو اونچی اٹھائی گئی ہے اور سمندر کی جو بھڑکایا ہوا ہے بے شک			

عَذَابَ رَبِّكَ لَوْ اَقَعَ 7	مَا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ 8	لَا يَوْمَ تَمُورُ	عذاب آپ کے رب کا یقیناً واقع ہونے والا ہے	نہیں اسے	کوئی دور کرنے والا	جس دن	لرزے گا
السَّاءِ مَوْرًا 9	وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا 10	فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ	آسمان سخت لرزنا	اور چلیں گے	پہاڑ بہت چلنا	پس ہلاکت ہے	اس دن
لِلْمُكَذِّبِينَ 11	الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ	يَلْعَبُونَ 12	جھٹلانے والوں کے لیے	وہ لوگ جو	وہ	بجٹ میں	وہ کھیل رہے ہیں
يَدْعُونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً 13	هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ	بِهَا تُكذِّبُونَ 14	وہ دھکیلے جائیں گے	طرف آگ کے	جہنم کی	سخت دھکیلے جانا	یہ ہے آگ وہ جو تھے تم
اِصْلُوهَا فَاصْبِرُوا 15	اَوْ لَا تَصْبِرُوا 16	سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ 17	اس کو	تم جھٹلاتے	کیا بھلا جادو ہے	یہ یا تم	نہیں تم دیکھتے
اِصْلُوهَا فَاصْبِرُوا 18	اَوْ لَا تَصْبِرُوا 19	سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ 20	جلواس میں	پس صبر کرو	یا	نہ تم صبر کرو	برابر ہے تم پر بے شک
تَجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 21	اِنَّ السَّاعِقِينَ فِي جَنَّتٍ	وَنَعِيمٍ 22	تم بدلہ دیئے جاتے ہو	اس کا جو	تھے تم	تم عمل کرتے	بے شک متقی لوگ باغات میں
رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 23	كُلُّوا وَاشْرَبُوا هٰذَا	بِئْسَ اٰتَمُّ رِبُّهُمْ 24	اور نعمتوں میں ہوں گے	مزے کرنے والے ہوں گے	ساتھ اس کے جو	عطا کیا انہیں	ان کے رب نے اور بچالے گا انہیں
تَعْمَلُونَ 25	مُتَكِبِّينَ 26	عَلٰى سُرِّ 27	رب ان کا	عذاب سے	جہنم کے	کھاؤ اور پیو	مزے سے بوجہ اس کے جو تھے تم
تَعْمَلُونَ 28	مُتَكِبِّينَ 29	عَلٰى سُرِّ 30	تم عمل کرتے	تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے	تختوں پر	قطار میں رکھے ہوئے	اور بیاہ دیں گے ہم انہیں

بِحُورٍ	عَيْنٍ 20	وَالَّذِينَ	آمَنُوا	وَاتَّبَعْتَهُمْ	ذُرِّيَّتَهُمْ
ساتھ گوری عورتوں کے	بڑی آنکھوں والی	اور وہ لوگ جو	ایمان لائے	اور پیروی کی ان کی	ان کی اولاد نے
بِأَيِّمَانٍ	الْحَقُّنَا	بِهِمْ	ذُرِّيَّتَهُمْ	وَمَا	الَّتَنَّهُمْ
ساتھ ایمان کے	ملا دیں گے ہم	ساتھ ان کے	ان کی اولاد کو	اور نہ	کی کریں گے ہم ان سے
مِنْ شَيْءٍ ط	كُلُّ	أَمْرٍ	بِأَ	كَسَبَ	رَهِيْنٌ 21
کچھ بھی	ہر	شخص	بوجہ اس کے جو	اس نے کمائی کی	رہن / گروی ہے
بِفَاكِهَةٍ	وَلَحْمٍ	مِمَّا	يَشْتَهُونَ 22	يَتَنَازَعُونَ	فِيهَا
پھل	اور گوشت	اس میں سے جو	وہ خواہش کریں گے	وہ ایک دوسرے سے چھینا چھٹی کریں گے	اس میں
كَاسًا	لَا لَعُوْ	فِيهَا	وَلَا	تَأْتِيْمٌ 23	وَيَطُوفُ
جام شراب پر	نکوئی بے ہودہ گوئی ہوگی	اس میں	اور نہ	کوئی گناہ (کی بات)	اور گھوم رہے ہوں گے
غُلَبَانٌ	لَهُمْ	كَانَّهُمْ	لَوْ لَوْ	مَكْنُونٌ 24	وَأَقْبَلَ
نوعمر خادم	ان کے لیے	گویا کہ وہ	موتی ہیں	چھپائے ہوئے	اور متوجہ ہوں گے
عَلَى بَعْضٍ	يَتَسَاءَلُونَ 25	قَالُوا	إِنَّا	كُنَّا	قَبْلُ
بعض پر	وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے	وہ کہیں گے	بے شک ہم	تھے ہم	اس سے پہلے
مُشْفِقِينَ 26	فَمَنْ	اللَّهُ	عَلَيْنَا	وَوَقْنَا	عَذَابَ
ڈرنے والے	پس احسان کیا	اللہ نے	ہم پر	اور اس نے بچا لیا ہمیں	عذاب سے
إِنَّا	كُنَّا	مِنْ قَبْلُ	نَدْعُوهُ ط	إِنَّهُ	هُوَ
بے شک ہم	تھے ہم	اس سے پہلے	ہم پکارا کرتے اسی کو	بے شک وہ	وہی ہے
الرَّحِيمِ 28	فَذَكِّرْ	فَمَا	أَنْتَ	بِنِعْمَتِ	رَبِّكَ
نہایت رحم کرنے والا	پس نصیحت کیجیے	پس نہیں	آپ	نفضل سے	اپنے رب کے

مَجْنُونٌ 29 ط	أَمْ	يَقُولُونَ	شَاعِرٌ	تَتَرَبَّصُّ	بِهِ
مجنون	یا	وہ کہتے ہیں	ایک شاعر ہے	ہم انتظار کر رہے ہیں	اس کے بارے میں
رَيْبَ الْمُنُونِ 30	قُلْ	تَرَبَّصُوا	فَإِنِّي	مَعَكُمْ	مِّنَ الْبُتْرِ بَصِيرِينَ 31 ط
گردش زمانہ (موت) کا	کہہ دیجیے	انتظار کرو	پس بے شک میں	ساتھ تمہارے	انتظار کرنے والوں میں سے ہوں
أَمْ	تَأْمُرُهُمْ	أَحْلَامَهُمْ	بِهَذَا	أَمْ	هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ 32 ج
یا	حکم دیتی ہیں انہیں	عقلیں ان کی	اس کا	یا	وہ لوگ ہیں سرکش
أَمْ	يَقُولُونَ	تَقَوْلَهُ 33 ج	بَلْ	لَا يُؤْمِنُونَ 33 ج	فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ
یا	وہ کہتے ہیں	اس نے گھڑ لیا ہے اسے	بلکہ	نہیں وہ ایمان لاتے	پس چاہیے کہ وہ لائیں کوئی بات
مَّثَلَهُ إِنْ	كَانُوا	صَادِقِينَ 34 ط	أَمْ	خَلِقُوا	مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ
اس جیسی	اگر	ہیں وہ	سچے	یا	وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے
أَمْ	هُمْ	الْخَالِقُونَ 35 ط	أَمْ	خَلَقُوا	السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ 3 ج
یا	وہ	پیدا کرنے والے ہیں	یا	انہوں نے پیدا کیا	آسمانوں اور زمین کو بلکہ
لَا يُوقِنُونَ 36 ط	أَمْ	عِنْدَهُمْ	خَزَائِنُ	رَبِّكَ	أَمْ
نہیں وہ یقین کرتے	یا	ان کے پاس	خزانے ہیں	آپ کے رب کے	یا وہ
الْمُصِيطِرُونَ 37 ط	أَمْ	لَهُمْ	سَلْمٌ	يَسْتَبْعُونَ	فِيهِ 3 ج
نگہبان ہیں	یا	ان کے لیے	کوئی سیرھی ہے	وہ غور سے سنتے ہوں	اس میں (چڑھ کر) پس چاہیے کہ لائے
مُسْتَبْعِهِمْ	بِسُلْطَنِ	مُبِينٍ 38 ط	أَمْ	لَهُ	الْبَنَاتِ وَلكُمْ
ان کا سنتے والا	کوئی دلیل	کھلی	یا	اس کے لیے ہیں	بیٹیاں اور تمہارے لیے ہیں
الْبَنُونَ 39 ط	أَمْ	تَسْأَلُهُمْ	أَجْرًا	فَهُمْ	مِّنْ مَّغْرَمٍ 40 ط
بیٹے	یا	آپ مانگتے ہیں ان سے	کوئی اجر	تو وہ	تاوان سے بوجھل ہیں

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ 41	أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا	يا	ان کے پاس	غیب ہے	تو وہ	وہ لکھ رہے ہیں	یا	وہ ارادہ کرتے ہیں	ایک چال کا
فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ 42	أَمْ لَهُمْ آلِهٌ غَيْرُ اللَّهِ	تو وہ جنہوں نے	کفر کیا	وہی	چال میں آنے والے ہیں	یا	ان کے لیے	کوئی اللہ ہے	سوائے
اللَّهُ ٓ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ 43	وَأَن يَرَوْا كِسْفًا	اللہ کے	پاک ہے	اللہ	اس سے جو	وہ شریک ٹھہراتے ہیں	اور اگر	وہ دیکھیں	کوئی ٹکڑا
مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ 44	فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ	آسمان سے	گرنے والا	وہ کہیں گے	بادل ہیں	تہہ تہہ	پس چھوڑوا نہیں	یہاں تک کہ	
يَلْقَوْنَ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ 45	يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ 46	وہ جا لیں	اپنے (اس) دن سے	وہ جو	اس میں	وہ بے ہوش کیے جائیں گے	جس دن	نہ کام آئے گی	
ظَلَمُوا عَدَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 47	وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ 48	ظلم کیا	ایک عذاب ہے	علاوہ	اس کے	اور لیکن	اکثر ان کے	نہیں وہ علم رکھتے	
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ 48	وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ 49	اپنے رب کی	جس وقت	آپ کھڑے ہوتے ہیں	اور رات کو	پس تسبیح کیجیے اس کی	اور پلٹنے کے بعد	ستاروں کے	
<p>آيَاتُهَا: 62</p> <p>سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ 23</p> <p>رُكُوتَاتُهَا: 3</p> <p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>									



وَالنَّجْمِ	إِذَا هَوَىٰ ①	مَا ضَلَّ	صَاحِبِكُمْ	وَمَا غَوَىٰ ②	وَمَا
قسم ہے ستارے کی	جب وہ گرے	نہیں	راہ بھولا	ساتھی تمہارا	اور نہ ہی وہ بہکا اور نہیں
يَنْطِقُ	عَنِ الْهَوَىٰ ③	إِنْ هُوَ	إِلَّا وَحْيٌ	يُوحَىٰ ④	عَلَّمَهُ
وہ بولتا	خواہش نفس سے	نہیں	وہ	مگر	ایک وحی جو وحی کی جاتی ہے سکھایا اسے
شَدِيدٌ	الْقُوَىٰ ⑤	ذُو مِرَّةٍ ⑥	فَاسْتَوَىٰ ⑥	وَهُوَ	بِالْأَفْقِ ⑦
بہت زبردست	توت والے نے	جو بڑا زور آور ہے	پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا	اور وہ	کنارے پر تھا بلند
ثُمَّ دَنَا	فَتَدَلَّىٰ ⑧	فَكَانَ	قَابَ	قَوْسَيْنِ	أَوْ
پھر وہ قریب ہوا	پس وہ اتر آیا	تو وہ ہو گیا	بقدر	دو کمانوں کے	یا اس سے زیادہ قریب
فَاَوْحَىٰ	إِلَىٰ عَبِيدِهِ	مَا	أَوْحَىٰ ⑩	مَا	كَذَبَ الْفُؤَادُ
تو اس نے وحی پہنچائی	اس (اللہ) کے بندے کی طرف	جو	اس نے وحی پہنچائی	نہیں	جھوٹ بولا دل نے جو کچھ
رَأَىٰ ⑪	أَفْتَبَرُونَهُ	عَلَىٰ مَا	يَرَىٰ ⑫	وَلَقَدْ	رَأَهُ
اس نے دیکھا	کیا پھرتے جھگڑتے ہو اس سے	اوپر اس کے جو	وہ دیکھتا ہے	اور البتہ تحقیق	اس نے دیکھا اسے ایک مرتبہ
أُخْرَىٰ ⑬	عِنْدَ	سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ⑭	عِنْدَهَا	جَنَّةِ الْبَاوِي ⑮	إِذْ
اور بھی	پاس	سدرۃ المنتہی کے	اسی کے پاس ہے	جنت الملائی	جب
يَغْشَىٰ	السِّدْرَةَ	مَا	يَغْشَىٰ ⑯	مَا	زَاغَ الْبَصَرُ
چھارہا تھا	بیری کے درخت پر	جو کچھ	چھارہا تھا	نہ	کجی کی نگاہ نے اور نہ وہ حد سے بڑھی
لَقَدْ	رَأَىٰ	مِنْ آيَاتِ	رَبِّهِ	الْكُبْرَىٰ ⑰	أَفْرَأَيْتُمْ
البتہ تحقیق	اس نے دیکھیں	نشانیوں	اپنے رب کی	بڑی بڑی	کیا پھر دیکھا تم نے لات
وَالْعِزَّىٰ ⑱	وَمَنْوَةَ	الثَّالِثَةَ	الْأُخْرَىٰ ⑳	الَّذِكْرُ	وَلَهُ
اور عزیٰ کو	اور منات	تیسری	ایک اور کو	کیا تمہارے لیے ہیں	لڑکے اور اس کے لیے ہیں

الْأُنثَى 21	تِلْكَ إِذَا	قِسْبَةٌ	ضِيْزَى 22	إِنْ هِيَ	إِلَّا	أَسَاءُ
لڑکیاں	یہ	تب	ایک تقسیم ہے	نا انصافی کی	نہیں	وہ مگر کچھ نام ہیں
سَيِّئُوهَا	أَنْتُمْ	وَأَبَاؤُكُمْ	مَا	أَنْزَلَ	اللَّهُ	بِهَا
نام رکھتے تم نے ان کے	تم نے	اور تمہارے آباؤ اجداد نے	نہیں	نازل کی	اللہ نے	ان کی
مِنْ سُلْطٰنٍ ط	إِنْ	يَتَّبِعُونَ	إِلَّا الظَّنَّ	وَمَا	تَهْوَى	الْأَنْفُسُ ج
کوئی دلیل	نہیں	وہ پیروی کرتے	مگر گمان کی	اور اس کی جو	خواہش کرتے ہیں	نفس
وَلَقَدْ	جَاءَهُمْ	مِّن رَّبِّهِمْ	الْهُدَى ط 23	أَمْ	لِلْإِنْسَانِ	مَا
اور البتہ یقین	آئی ان کے پاس	ان کے رب کی طرف سے	ہدایت	کیا ہے	انسان کے لیے	جو
تَبٰى 24	فَلِلَّهِ	الْآخِرَةُ	وَالْأُولَى ع 25	وَكَمْ	مِّن مَّلَكٍ	فِي السَّمٰوٰتِ
وہ تمنا کرے	تو اللہ ہی کے لیے ہے	آخرت	اور پہلی (دنیا)	اور کتنے ہی	فرشتے ہیں	آسمانوں میں
لَا تُغْنِي	شَفَاعَتُهُمْ	شَيْعًا	إِلَّا	مِن بَعْدِ	أَنْ	يَأْذَنَ اللَّهُ
نہ کام آئے گی	سفارش ان کی	کچھ بھی	مگر	اس کے بعد	کہ	اجازت دے اللہ
لَسَنَ	يَشَاءُ	وَيَرْضَى 26	إِنَّ	الَّذِينَ	لَا يُؤْمِنُونَ	بِالْآخِرَةِ
جس کے لیے	وہ چاہے	اور وہ راضی ہو جائے	بے شک	وہ لوگ جو	نہیں وہ ایمان لاتے	آخرت پر
لَيَسْتَوْنَ	الْمَلَائِكَةَ	تَسْبِيَةً	الْأُنثَى 27	وَمَا	لَهُمْ	بِهَا
البتہ وہ نام رکھتے ہیں	فرشتوں کے	نام	عورتوں جیسے	اور نہیں	انہیں	اس کا
مِنْ عِلْمٍ ط	إِنْ	يَتَّبِعُونَ	إِلَّا الظَّنَّ ج	وَإِنَّ	الظَّنَّ	لَا يُغْنِي
کوئی علم	نہیں	وہ پیروی کرتے	مگر گمان کی	اور بے شک	گمان	نہیں وہ کام آتا
مِنَ الْحَقِّ	شَيْعًا ج 28	فَاعْرَضْ	عَنْ	مَّن	تَوَلَّى لَّهُ	عَنْ ذِكْرِنَا
حق کے (مقابلے پر)	کچھ بھی	تو اعراض کیجیے	اس سے	جو	منہ موڑے	ہمارے ذکر سے

وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا 29	ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ط	اور نہ وہ چاہے مگر زندگی دنیا کی یہی انتہا ہے ان کی علم میں
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ	بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے اور وہ	
أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى 30	وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا	زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت پا گیا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ
فِي الْأَرْضِ ۗ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ	الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى 31	زمین میں ہے تاکہ وہ بدل دے ان کو جنہوں نے برا کیا بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے اور وہ بدل دے
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى 31	الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ	ان کو جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کے وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے
وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ط	إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ	اور بے حیائی سے سوائے چھوٹے گناہوں کے بے شک رب آپ کا وسیع مغفرت والا ہے
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ	أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ	وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے اور جب تم
أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ	أُمَّهَاتِكُمْ 32	جینین تھے بیٹوں میں اپنی ماؤں کے پس نہ تم پاک ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو وہ
أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى 32	أَفْرَعَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى 33	زیادہ جانتا ہے اسے جس نے تقویٰ اختیار کیا کیا بھلا دیکھا آپ نے اسے جو منہ موڑ گیا اور اس نے دیا تھوڑا سا
وَأَكْدَى 34	أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى 35	اور اس نے روک لیا کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا تو وہ وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں

يُنَبِّأُ	بِمَا	فِي صُحُفٍ	مُوسَى 36	وَإِبْرَاهِيمَ	الَّذِي	وَفِي 37	أَلَّا
وہ خبر دیا گیا	اس کی جو	صحیفوں میں ہے	موسیٰ کے	اور ابراہیم کے	جس نے	وفا کی	کہ نہ
تَزِرُ	وَأَزْرَةً	وَزُرَّ	أُخْرَى 38	وَأَنْ	لَيْسَ	لِلْإِنْسَانِ	إِلَّا
بو جھا اٹھائے گی	کوئی بو جھا اٹھانے والی	بو جھ	کسی دوسری کا	اور یہ کہ	نہیں ہے	انسان کے لیے	مگر
مَا	سَعَى 39	وَأَنْ	سَعِيَهُ	سَوْفَ	يُرَى 40	ثُمَّ	يُجْزَاهُ
جو	اس نے کوشش کی	اور یہ کہ	کوشش اس کی	عنقریب	وہ دیکھی جائے گی	پھر	بدلہ دیا جائے گا اسے
الْجَزَاءَ	الْأَوْفَى 41	وَأَنْ	إِلَى رَبِّكَ	الْمُنْتَهَى 42	وَأَنَّهُ	هُوَ	
بدلہ	پورا پورا	اور بے شک	آپ کے رب کی طرف ہی	انتہا ہے	اور بے شک وہ	وہی ہے	
أَضْحَكَ	وَأَبْكِي 43	وَأَنَّهُ	هُوَ	أَمَاتَ	وَأَحْيَا 44	وَأَنَّهُ	
جس نے ہنسا یا	اور اس نے رلایا	اور بے شک وہ	وہی ہے	جس نے موت دی	اور اس نے زندہ کیا	اور بے شک وہی ہے	
خَلَقَ	الزَّوْجَيْنِ	الذَّكَرَ	وَالْأُنثَى 45	مِنْ نُّطْفَةٍ	إِذَا	تَمُنِي 46	
جس نے پیدا کیا	جوڑوں کو	نر	اور مادہ کو	نطفے سے	جب	وہ ٹپکایا جاتا ہے	
وَأَنْ	عَلَيْهِ	النَّشْأَةَ	الْأُخْرَى 47	وَأَنَّهُ	هُوَ	أَغْنَى	وَأَقْنَى 48
اور بے شک	اسی کے ذمہ ہے	پیدائش	دوسری مرتبہ	اور بے شک وہ	وہی ہے	جس نے غمی کیا	اور اس نے مالدار بنایا
وَأَنَّهُ	هُوَ	رَبُّ	الشَّعْرَى 49	وَأَنَّهُ	أَهْلَكَ	عَادًا	الْأُولَى 50
اور بے شک وہ	وہی ہے	رب	شعرا (ستارے) کا	اور بے شک وہی ہے	جس نے ہلاک کیا	عاد	اولیٰ کو
وَتَسْوَدًا	فَمَا	أَبْقَى 51	وَقَوْمَ	نُوحٍ	مِّنْ قَبْلُ 52	إِنَّهُمْ	كَانُوا
اور سُود کو	پس نہ	اس نے باقی چھوڑا	اور قوم	نوح کو	اس سے قبل	بے شک وہ	تھے وہ
هُمْ	أَظْلَمَ	وَاطْغَى 52	وَالْمُوتِفِكَ	أَهْوَى 53	فَعَشَّهَا	مَا	
وہ	بہت ظالم	اور زیادہ سرکش	اور الٹ جانے والی ہستی کو	اس نے نیچے دے مارا	تو ڈھانپ لیا نہیں	جس نے	

عَشِي 54 ج	فِي أَيِّ الْآءِ رَبِّكَ	تَتَبَارَى 55	هَذَا	نَذِيرٌ	مِّنَ النَّذِيرِ
ڈھانپنا	پس کون سی نعمتوں پر	اپنے رب کی	تم شک کرتے ہو	یہ	ایک ڈرانے والا ہے ڈرانے والوں میں سے

الْأُولَى 56	أَزْفَتِ	الْأَزْفَةُ 57 ج	لَيْسَ	لَهَا	مِنْ دُونِ اللَّهِ
پہلے	نزدیک آگئی	نزدیک آنے والی	نہیں	اس کے لیے	سوائے اللہ کے

كَاشِفَةٌ 58 ط	أَفْبُنْ	هَذَا	الْحَدِيثِ	تَعْجَبُونَ 59 ل	وَتَضْحَكُونَ
کوئی ہٹانے والا	کیا جھلا	اس	بات سے	تم تعجب کرتے ہو	اور تم ہنستے ہو

وَلَا تَبْكُونَ 60 ل	وَأَنْتُمْ	سِيدُونَ 61	فَاسْجُدُوا	لِلَّهِ	وَاعْبُدُوا 62 ح السجدة
اور نہیں تم روتے	اور تم	غافل ہو	پس سجدہ کرو	اللہ کے لیے	اور عبادت کرو

آيَاتُهَا: 55	سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ 37	رُكُوعَاتُهَا: 3
---------------	---------------------------------	------------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ	وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ 1	وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا
قریب آگئی	اور شق ہو گیا	چاند
قیامت	اور اگر	وہ دیکھ لیں
اور شق ہو گیا	اور انہوں نے جھٹلایا	اور انہوں نے پیروی کی
اور وہ کہتے ہیں	اور انہوں نے جھٹلایا	اور انہوں نے پیروی کی
اور وہ کہتے ہیں	اور انہوں نے جھٹلایا	اور انہوں نے پیروی کی

وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَبْرَهُ 2	وَكَذَّبُوا	وَاتَّبَعُوا	أَهْوَاءَهُمْ	وَكَلُّ
اور وہ کہتے ہیں	اور انہوں نے جھٹلایا	اور انہوں نے پیروی کی	اپنی خواہشات کی	اور ہر
اور وہ کہتے ہیں	اور انہوں نے جھٹلایا	اور انہوں نے پیروی کی	اپنی خواہشات کی	اور ہر

أَمْرٍ مُّسْتَقَرٍّ 3	وَلَقَدْ جَاءَهُمْ	مِّنَ الْأَنْبَاءِ	مَا فِيهِ	مُزْدَجَرٌ 4 ل
کام کا	اور البتہ تحقیق	آئیں ان کے پاس	کئی خبریں	جن میں
کام کا	اور البتہ تحقیق	آئیں ان کے پاس	کئی خبریں	جن میں

حِكْمَةٌ 5	بِالْغَةِ	فَمَا	تُعْنِ	النَّذِيرُ 5 ل	فَتَوَلَّ	عَنْهُمْ	يَوْمَ
حکمت ہے	کامل	تو نہ	کام آئے	ڈراوے	تو منہ پھیر لیجیے	ان سے	جس دن
حکمت ہے	کامل	تو نہ	کام آئے	ڈراوے	تو منہ پھیر لیجیے	ان سے	جس دن

يَدْعُ	الدَّاعِ	إِلَى شَيْءٍ	نُّكْرٍ 6 ل	خُشَعًا	أَبْصَارَهُمْ	يَخْرُجُونَ
پکارے گا	پکارنے والا	طرف ایک چیز	ناگوار کے	جھکی ہوئی ہوں گی	نگاہیں ان کی	وہ نکلیں گے
پکارے گا	پکارنے والا	طرف ایک چیز	ناگوار کے	جھکی ہوئی ہوں گی	نگاہیں ان کی	وہ نکلیں گے

مِنَ الْجَدَاثِ	كَانَهُمْ	جَرَادٌ	مُنْتَشِرٌ ⑦	مُهْطِعِينَ	إِلَى الدَّاعِ ط
قبروں سے	گویا کہ وہ	ٹڈیاں ہیں	پھیلی ہوئیں	دوڑتے ہوں گے	طرف پکارنے والے کے
يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ	عَسِرٌ ⑧	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ	قَوْمٌ نُّوحٌ	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ	قَوْمٌ نُّوحٌ
کہیں گے	یہ	دن ہے	بڑا سخت	ان سے پہلے	قوم
فَكَذَّبُوا	عَبَدْنَا	وَقَالُوا	مَجْنُونٌ	وَازْدَجَرَ ⑨	فَدَاعَا رَبَّهُ
تو انہوں نے جھٹلایا	ہمارے بندے کو	اور انہوں نے کہا	مجنون ہے	اور وہ جھڑک دیا گیا	تو اس نے پکارا
أَنِّي	مَغْلُوبٌ	فَأَنْتَصِرُ ⑩	فَفَتَحْنَا	أَبْوَابَ السَّمَاءِ	إِسَاءِ
بے شک میں	مغلوب ہوں	پس تو انتقام لے	تو کھول دیئے ہم نے	دروازے آسمان کے	ساتھ ایک پانی
مُنْهَبِرٌ ⑪	وَفَجَّرْنَا	الْأَرْضَ	عَيُونًا	فَالْتَقَى	الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ
خوب برسنے والے کے	اور پھاڑ دیا ہم نے	زمین سے	چشموں کو	پس مل گیا	پانی ایک کام پر تحقیق
قُدْرَ ⑫	وَحَمَلْنَاهُ	عَلَى ذَاتِ الْوَجَّحِ	وَدَسِرٌ ⑬	تَجْرِي	بَاعَيْنَا
جو مقدر ہو چکا تھا	اور سوار کیا ہم نے اسے	اوپر تختوں والی	اور میٹھوں والی کے	جو چل رہی تھی	ہماری نگاہوں کے سامنے
جَزَاءٌ لِّبَنِّ	كَانَ	كُفْرًا ⑭	وَلَقَدْ	تَرَكْنَاهَا	أَيَّةً فَهَلْ
بدلہ تھا	اس کا جس کا	تھا	انکار کیا گیا	اور البتہ تحقیق	چھوڑ دیا ہم نے اسے ایک نشانی (بنا کر) تو کیا ہے
مِن مَّذَكِّرٍ ⑮	فَكَيْفَ	كَانَ	عَذَابِي	وَنَذِرٍ ⑯	وَلَقَدْ
کوئی نصیحت پکڑنے والا	تو کیا	تھا	عذاب میرا	اور ڈرانا میرا	اور البتہ تحقیق
الْقُرْآنَ	لِلذِّكْرِ	فَهَلْ	مِن مَّذَكِّرٍ ⑰	كَذَّبَتْ	عَادٌ
قرآن کو	نصیحت کے لیے	تو کیا ہے	کوئی نصیحت پکڑنے والا	جھٹلایا	عاد نے
عَذَابِي	وَنَذِرٍ ⑱	إِنَّا	أَرْسَلْنَا	عَلَيْهِمْ	رِيحًا
عذاب میرا	اور ڈرانا میرا	بے شک ہم	بھیجا ہم نے	ان پر	ایک ہوا

نَحْسٍ مُّسْتَبِيرٍ 19	تَنْزِعُ	النَّاسِ	كَانَهُمْ	أَعْجَازُ	نَحْلٍ
مسلل نحوست والے	اکھاڑ کر پھینک رہی تھی	لوگوں کو	گویا کہ وہ	تنتے تھے	کھجور کے
مُنْقَعِرٍ 20	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي 21	وَلَقَدْ	يَسْرَنَا	الْقُرْآنَ	
جڑ سے اکھڑے ہوئے	تو کیسا	تھا	عذاب میرا	اور ڈرانا میرا	اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَكِّرٍ 22	كَذَّبَتْ	ثَمُودُ	بِالنُّذْرِ 23	فَقَالُوا	
نصیحت کے لیے	تو کیا ہے	کوئی نصیحت پکڑنے والا	جھٹلایا	ثمود نے	ڈرانے والوں کو تو انہوں نے کہا
أَبَشْرًا مِّمَّا وَاحِدًا	تَتَّبِعُهُآ	إِنَّا	إِذَا لَفِي ضَلَلٍ	وَسُعْرِ 24	
کیا ایک آدمی ہم میں سے	اکیلا	ہم پیروی کریں اس کی	بے شک ہم	تب	البتہ گمراہی میں ہوں گے اور جنوں میں
ءِ أَلْتَقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ	مِنْ بَيْنِنَا	بَلْ	هُوَ	كَذَّابٌ	أَشْرٌ 25
کیا ڈالا گیا	ذکر/نصیحت	اس پر	ہمارے درمیان سے	بلکہ	وہ ہے سخت جھوٹا بہت اترانے والا
سَيَعْلَمُونَ	غَدًا	مَنْ	الْكَذَّابُ	الْأَشْرُ 26	إِنَّا
عنقریب وہ جان لیں گے	کل	کون ہے	سخت جھوٹا	بہت اترانے والا	بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو
فِتْنَةً لَهُمْ	فَارْتَقِبْهُمْ	وَاصْطَبِرْ 27	وَنَبِيَّهُمْ	أَنَّ	الْبَاءَ
بطور آزمائش ان کے لیے	پس انتظار کرو ان کا	اور صبر کرو	اور آگاہ کر دو انہیں	بے شک	پانی تقسیم کر دہے
بَيْنَهُمْ ج	كُلُّ	شَرِبٍ	مُّحْتَضِرٍ 28	فَنَادُوا	صَاحِبَهُمْ
درمیان ان کے	ہر ایک کے	پانی کی باری	حاضر کی گئی ہے	تو انہوں نے پکارا	اپنے ساتھی کو تو اس نے پکڑا
فَعَقَرَ 29	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي 30	إِنَّا	أَرْسَلْنَا	عَلَيْهِمْ	
پھر اس نے کوچیوں کا ٹڈالیں	پھر کیسا	تھا	عذاب میرا	اور ڈرانا میرا	بے شک ہم بھیجی ہم نے ان پر
صِبْحَةً	وَإِحْدَاةً	فَكَانُوا	كَهَشِيمٍ	الْمُحْتَضِرِ 31	وَلَقَدْ
چنگھاڑ	ایک ہی	تو ہو گئے وہ	ماندر وندی ہوئی باڑ کے	باڑ لگانے والے کی	اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے

الْقُرْآنَ	لِلذِّكْرِ	فَهَلْ	مِنْ مُدْكِرٍ ③۲	كَذَّبَتْ	قَوْمٌ	لُوطٌ
قرآن کو	نصیحت کے لیے	تو کیا ہے	کوئی نصیحت پکڑنے والا	جھٹلایا	قوم	لوط نے
بِالنُّذْرِ ③۳	إِنَّا	أَرْسَلْنَا	عَلَيْهِمْ	حَاصِبًا	إِلَّا	أَلْ لُوطِ ط
ڈرانے والوں کو	بے شک ہم	بھیجی ہم نے	ان پر	پتھروں کی آندھی	سوائے	آل لوط کے
نجات دی ہم نے انہیں						
بِسَحْرِ ③۴	نُعْمَةٍ	مِّنْ عِنْدِنَا ط	كَذَلِكَ	نَجِزِي	مَنْ	شَكَرَ ③۵
سحر کے وقت	بطور انعام	ہمارے پاس سے	اسی طرح	ہم بدلہ دیتے ہیں	اسے جو	شکر ادا کرے
وَلَقَدْ	أَنْذَرَهُمْ	بَطْشَتْنَا	فَتَبَارَوْا	بِالنُّذْرِ ③۶	وَلَقَدْ	
اور البتہ تحقیق	اس نے ڈرایا انہیں	ہماری پکڑ سے	تو انہوں نے شک کیا	ڈراووں پر	اور البتہ تحقیق	
رَاوِدُوهُ	عَنْ ضَيْفِهِ	فَطَسْنَا	أَعْيُنَهُمْ	فَذُوقُوا	عَذَابِي	
انہوں نے پھسلانا چاہا اسے	اس کے مہمانوں کے بارے میں	تو ٹنڈا دیں ہم نے	آنکھیں ان کی	تو چکھو	عذاب میرا	
وَنُذِرِ ③۷	وَلَقَدْ	صَبَّحَهُمْ	بُكْرَةً	عَذَابٌ	مُّسْتَقَرٌّ ③۸	فَذُوقُوا
اور ڈرانا میرا	اور البتہ تحقیق	صبح کی ان پر	صبح سویرے	ایک عذاب	مستقل ہے	تو چکھو
عَذَابِي	وَنُذِرِ ③۹	وَلَقَدْ	يَسِّرْنَا	الْقُرْآنَ	لِلذِّكْرِ	فَهَلْ
عذاب میرا	اور ڈرانا میرا	اور البتہ تحقیق	آسان کر دیا ہم نے	قرآن کو	نصیحت کے لیے	تو کیا ہے
مِنْ مُدْكِرٍ ④۰	وَلَقَدْ	جَاءَ	أَلْ فِرْعَوْنَ	النُّذْرُ ④۱	كَذَّبُوا	بِآيَاتِنَا
کوئی نصیحت پکڑنے والا	اور البتہ تحقیق	آئے	آل فرعون کے پاس	ڈرانے والے	انہوں نے جھٹلایا	ہماری آیات کو
كُلِّهَا	فَاخَذْنَاهُمْ	أَخَذَ	عَزِيزٍ	مُّقْتَدِرٍ ④۲	أَكْفَارِكُمْ	خَيْرٌ
سب کی سب	تو پکڑ لیا ہم نے انہیں	پکڑنا	بہت زبردست	اقتدار والے کا	کیا کفار تمہارے	بہتر ہیں
مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ	أَمْ	لَكُمْ	بِرَاءَةٌ	فِي الزُّبُرِ ④۳	أَمْ	يَقُولُونَ
ان لوگوں سے	یا	تمہارے لیے	کوئی چھٹکارا پانا ہے	(پہلی) کتابوں میں	یا	وہ کہتے ہیں
ہم ہیں						



جَبِيحٌ	مُنْتَصِرٌ 44	سَيُهْزَمُ	الْجَمْعُ	وَيَوْلُونَ	الدُّبْرَ 45	بَلِ
ایک جماعت	بدل لینے والے	عنقریب شکست کھا جائے گا	جٹھا	اور وہ پھیر لیں گے	پشتیں	بلکہ
السَّاعَةُ	مَوْعِدُهُمْ	وَالسَّاعَةُ	أَدْهَى	وَأَمْرٌ 46	إِنَّ	الْجُرْمِينَ
قیامت	ان کے وعدے کا وقت ہے	اور قیامت	بہت سخت ہے	اور بہت کڑوی	بے شک	مجرم لوگ
فِي ضَلِيلٍ	وَسَعِيرٍ 47	يَوْمَ	يُسْحَبُونَ	فِي النَّارِ	عَلَى	وَجُوهِهِمْ ط
گمراہی میں ہیں	اور جنوں میں	جس دن	وہ گھسیٹے جائیں گے	آگ میں	اپنے چہروں کے بل	
ذُوقُوا	مَسَّ	سَقَرٍ 48	إِنَّا	كُلَّ شَيْءٍ	خَلَقْنَاهُ	بِقَدْرِ 49
چکھو	چھوٹا	دوزخ کا	بے شک ہم نے	ہر	چیز کو	پیدا کیا ہم نے اسے
وَمَا	أَمْرُنَا	إِلَّا	وَاحِدَةٌ	كَلِمَةٍ	بِالْبَصَرِ 50	وَلَقَدْ
اور نہیں	حکم ہمارا	مگر	ایک ہی بار	مانند چھپکنے کے	نگاہ کو	اور البتہ تحقیق
أَشْيَاعَكُمْ	فَهَلْ	مِنْ مُدَّاكِرٍ 51	وَكُلِّ شَيْءٍ	فَعَلُوهُ	فِي الزُّبُرِ 52	
تمہارے گروہوں کو	تو کیا ہے	کوئی نصیحت پکڑنے والا	اور ہر	چیز	انہوں نے کیا جسے	صحیفوں میں ہے
وَكُلِّ صَغِيرٍ	وَكَبِيرٍ	مُسْتَطَرٍّ 53	إِنَّ	الْمُتَّقِينَ	فِي جَنَّتِ	
اور ہر	چھوٹا	اور بڑا	لکھا ہوا ہے	بے شک	متقی لوگ	باغات میں ہوں گے
وَنَهْرٍ 54	فِي مَقْعَدٍ	صَدِقٍ	عِنْدَ	مَلِكٍ	مُقْتَدِرٍ 55	
اور نہروں میں	جگہ میں	سچائی کی	بادشاہ کے پاس	جو اقتدار والا ہے		
سُورَةُ الرَّحْمَنِ مَدَنِيَّةٌ 97 55 آيَاتُهَا: 78						
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ						
الرَّحْمَنِ 1	عَلَّمَ 2	الْقُرْآنَ 3	خَلَقَ 4	الْإِنْسَانَ 5	عَلَّمَهُ 6	الْبَيَانَ 7
رحمن	اس نے تعلیم دی	قرآن کی	اس نے پیدا کیا	انسان کو	سکھایا اسے	بولنا

الشَّسُورُ	وَالْقَمَرُ	بِحُسْبَانٍ ⑤	وَالنَّجْمُ	وَالشَّجَرُ	يَسْجُدِينَ ⑥
سورج	اور چاند	ایک حساب کے ساتھ ہیں	اور ستارے/بلیں	اور درخت	وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں
وَالسَّيِّئَاتِ	رَفَعَهَا	وَوَضَعَ	الْبِيزَانَ ⑦	الَّا	تَطْغَوْا فِي الْبِيزَانِ ⑧
اور آسمان	اس نے بلند کیا اسے	اور اس نے رکھ دیا	میزان	کہ نہ	تم زیادتی کرو
وَأَقِمْوَا	الْوِزْنَ	بِالْقِسْطِ	وَلَا	تُخْسِرُوا	الْبِيزَانَ ⑨
اور قائم کرو	وزن کو	ساتھ انصاف کے	اور نہ	تم کی کرو	تول میں
وَضَعَهَا	لِلْأَنَامِ ⑩	فِيهَا	فَاكِهَةً ⑪	وَالنَّخْلُ	ذَاتُ الْأَكْمَامِ ⑪
اس نے رکھ دیا اسے	مخلوقات کے لیے	اس میں	پھل ہیں	اور کھجور کے درخت ہیں	خوشوں والے
وَالْحَبِّ	ذُو الْعَصْفِ	وَالرَّيْحَانِ ⑫	فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ
اور غلے ہیں	بھس والے	اور خوشبودار پھول ہیں	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی
تُكذِّبِينَ ⑬	خَلَقَ	الْإِنْسَانَ	مِنْ صَالِحٍ	كَالْفَخَّارِ ⑭	وَخَلَقَ
تم دونوں جھٹلاؤ گے	اس نے پیدا کیا	انسان کو	بجڑے والی مٹی سے	ٹھیکری کی طرح کی	اور اس نے پیدا کیا
الْجَانِّ	مِنْ مَّارِجٍ	مِنْ نَّارٍ ⑮	فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ
جن کو	شعلے سے	آگ کے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی
رَبِّ	الْمَشْرِقَيْنِ	وَرَبِّ	الْمَغْرِبَيْنِ ⑯	فَبِأَيِّ	الْآءِ
رب ہے	دو مشرقوں کا	اور رب ہے	دو مغربوں کا	تو کون سی	نعمتوں کو
تُكذِّبِينَ ⑰	مَرَجٍ	الْبَحْرَيْنِ	يَلْتَقِينَ ⑱	بَيْنَهُمَا	بَرْزَخٌ
تم دونوں جھٹلاؤ گے	اس نے چھوڑ دیا	دو سمندروں کو	وہ دونوں باہم ملتے ہیں	ان دونوں کے درمیان	ایک پردہ ہے
لَا يَبْغِينَ ⑲	فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ ⑳	يَخْرُجُ مِنْهَا
نہیں وہ دونوں تجاؤ کرتے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	نکلنے ہیں

اللُّؤْلُؤُ	وَالْمَرْجَانُ 22	فِيَّائِي 21	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 23	وَلَهُ
موتی	اور مونگے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	اور اسی کے لیے ہیں
الْجَوَارِ	الْبُنُشْتِ	فِي الْبَحْرِ	كَالْأَعْلَامِ 24	فِيَّائِي 21	الْآءِ	رَبِّكُمْ
جہاز	اونچے اٹھے ہوئے	سمندر میں	اونچے پہاڑوں کی طرح	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی
تُكذِّبِينَ 25	كُلُّ	مَنْ	عَلَيْهَا	فَإِنَّ 26	وَيَبْقَى	وَجْهَهُ
تم دونوں جھٹلاؤ گے	سب	جو	اس پر ہیں	فنا ہونے والے ہیں	اور باقی رہے گا	چہرہ
رَبِّكَ	رَبِّكُمْ	رَبِّكُمْ	رَبِّكُمْ	رَبِّكُمْ	رَبِّكُمْ	رَبِّكُمْ
آپ کے رب کا	اپنے رب کی	اپنے رب کی	اپنے رب کی	اپنے رب کی	اپنے رب کی	اپنے رب کی
ذُو الْجَلْدِ	وَالْإِكْرَامِ 27	فِيَّائِي 21	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 28	يَسْأَلُهُ
بزرگی والا	اور عزت والا	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	مانگتا ہے اسی سے
مَنْ	فِي السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ 29	كُلُّ	يَوْمٍ	هُوَ	فِي شَأْنٍ 29
جو بھی	آسمانوں میں	اور زمین میں ہے	ہر	دن	وہ	ایک نئی شان میں ہے
الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 30	سَنْفَرَعُ	لَكُمْ	أَيُّهُ	الثَّقَلَيْنِ 31
نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے	تمہارے لیے	اے	دو بوجھوں (جن و انس)
فِيَّائِي 21	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 32	يَبْعَثُ	الْجِنِّ	وَالْإِنْسِ
تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	اے گروہ	جنوں	اور انسانوں کے
اسْتَطَعْتُمْ	أَنْ	تَنْفِذُوا	مِنْ أَقْطَارِ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	فَانفِذُوا 33
تم استطاعت رکھتے ہو	کہ	تم نکل جاؤ	کناروں سے	آسمانوں	اور زمین کے	تو نکل جاؤ
لَا تَنْفِذُونَ	إِلَّا	بِسُلْطَنِ 33	فِيَّائِي 21	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 34
نہیں تم نکل سکتے	مگر	ساتھ ایک قوت کے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے
يُرْسَلُ	عَلَيْكُمْ	شَوَاطِ	مِنْ نَّارٍ 35	وَنُحَاسٍ	فَلَا	تَنْتَصِرِينَ 35
چھوڑ دیا جائے گا	تم دونوں پر	ایک شعلہ	آگ کا	اور دھواں	تو نہ	تم دونوں مقابلہ کر سکو گے

فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 36	فَإِذَا	انْشَقَّتِ	السَّمَاءُ	فَكَانَتْ
تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	پھر جب	پھٹ جائے گا	آسمان	تو وہ ہو جائے گا
وَرْدَةٌ	كَالِدَّهَانِ 37	فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 38	فِيَوْمٍ	مِيَدٍ
سرخ	ماندر سرخ چمڑے کے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	تو اس دن	
لَا يُسْعَلُ	عَنْ ذُنُوبِهِ	إِنْسٌ	وَلَا	جَانٌّ 39	فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ
نہ پوچھا جائے گا	اپنے گناہ کے بارے میں	کوئی انسان	اور نہ	کوئی جن	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی
تُكذِّبِينَ 40	يُعْرَفُ	الْمُجْرِمُونَ	بِسَيِّئِهِمْ	فِيَوْمٍ	يُؤَخَذُ		
تم دونوں جھٹلاؤ گے	پچپانے جائیں گے	مجرم	اپنے چہروں کی علامت سے	تو وہ پکڑے جائیں گے			
بِالنَّوَصِي	وَالْأَقْدَامِ 41	فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 42	هَذِهِ	
پیشانی کے بالوں سے	اور قدموں سے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	یہ ہے	
جَهَنَّمَ	الَّتِي	يُكذِّبُ	بِهَا	الْمُجْرِمُونَ 43	يُطَوَّفُونَ	بَيْنَهَا	
جہنم	وہ جو	جھٹلاتے تھے	اسے	مجرم	وہ گردش کریں گے	درمیان اس کے	
وَبَيْنَ	حَيْمٍ	أَنْ 44	فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 45	
اور درمیان	سخت گرم پانی	کھولتے ہوئے کے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	
وَلِسَنَ	خَافَ	مَقَامَ	رَبِّهِ	جَنَّتِينَ 46	فَبِأَيِّ	الْآءِ	
اور اس کے لیے جو	ڈرے	کھڑا ہونے سے	اپنے رب کے سامنے	دو باغ ہیں	تو کون سی	نعمتوں کو	
رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 47	ذَوَاتَا	أَفْنَانٍ 48	فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ	
اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	دونوں بہت شاخوں والے ہیں		تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	
تُكذِّبِينَ 49	فِيهَا	عَيْنٍ	تَجْرِينَ 50	فَبِأَيِّ	الْآءِ	رَبِّكُمْ	
تم دونوں جھٹلاؤ گے	ان دونوں میں	دو چشمے ہیں	وہ دونوں بہتے ہوں گے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	

تَمِ دُونُوں جھٹلاؤ گے	ان دونوں میں	ہر	پھل کی	دو قسمیں ہیں	تو کون سی	نعمتوں کو	تُكذِّبِنِ 51	فِيهَآ	مِن كُلِّ	فَاكِهَةٍ	زُوجِنِ 52	فِبَايِّ	الآءِ	
اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	تکلیہ لگائے ہوئے ہوں گے	مُتَكِيْنٍ	ایسے بستروں پر	استرجن کے	رَبِّكُمْآ	تُكذِّبِنِ 53	عَلَى فُرُشٍ	بَطَآئِنَهَا					
موٹے ریشم کے ہوں گے	اور پھل	دونوں باغوں کے	جھکے ہوئے ہوں گے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	مِنِ اسْتَبْرَقٍ ط	وَجَنَا	الْجَنَّتَيْنِ	دَانٍ 54	فِبَايِّ	الآءِ	رَبِّكُمْآ	
تم دونوں جھٹلاؤ گے	ان میں ہوں گی	جھکانے والیاں	نگاہوں کو	نہیں	چھو انہیں	کسی انسان نے	تُكذِّبِنِ 55	فِيهِنَّ	قَصْرَتُ	الطَّرْفِ لَا	لَمْ	يَطْبُثُنَّ	اِنْسُ	
ان سے پہلے	اور نہ	کسی جن نے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	قَبْلَهُمْ	وَلَا	جَانٌّ 56	فِبَايِّ	الآءِ	رَبِّكُمْآ	تُكذِّبِنِ 57	كَآنَهُنَّ
یا قوت	اور مرجان	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	نہیں	الْيَاقُوْتُ	وَالْمَرْجَانُ 58	فِبَايِّ	الآءِ	رَبِّكُمْآ	تُكذِّبِنِ 59	هَلْ	
بدلہ	احسان کا	مگر	احسان ہی	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	جَزَاءُ	الْاِحْسَانِ	اِلَّا	الْاِحْسَانُ 60	فِبَايِّ	الآءِ	رَبِّكُمْآ	
تم دونوں جھٹلاؤ گے	اور ان دونوں کے علاوہ	دو باغ ہیں	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	تُكذِّبِنِ 61	وَمِنْ دُونِهَا	جَنَّتَيْنِ 62	فِبَايِّ	الآءِ	رَبِّكُمْآ		
تم دونوں جھٹلاؤ گے	دونوں گہرے سبز ہیں	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	تم دونوں جھٹلاؤ گے	تُكذِّبِنِ 63	مُدْهَامَتَيْنِ 64	فِبَايِّ	الآءِ	رَبِّكُمْآ	تُكذِّبِنِ 65		
ان دونوں میں	دو چشمے ہیں	دونوں جوش مارنے والے	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	فِيهَآ	عَيْنَيْنِ	نَضَّآخَتَيْنِ 66	فِبَايِّ	الآءِ	رَبِّكُمْآ	تُكذِّبِنِ 67	

فِيهَا	فَاكِهَةٌ	وَنَخْلٌ	وَرُمَّانٌ 68 ج	فَبَائِي	الْآءِ	رَبِّكُمْ
ان دونوں میں	پھل ہیں	اور کھجور کے درخت	اور انار ہیں	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی
تُكذِّبِينَ 69 ج	فِيهِنَّ	خَيْرٌ	حَسَانٌ 70 ج	فَبَائِي	الْآءِ	رَبِّكُمْ
تم دونوں جھٹلاؤ گے	ان میں	نیک عورتیں ہیں	خوب صورت	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی
تُكذِّبِينَ 71 ج	حُورٌ	مَقْصُورَاتٌ	فِي الْخِيَامِ 72 ج	فَبَائِي	الْآءِ	رَبِّكُمْ
تم دونوں جھٹلاؤ گے	حوریں	ٹھہرائی ہوئیں	خیموں میں	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی
تُكذِّبِينَ 73 ج	لَمْ	يَطْبِئُنَّ	إِنْسٌ	قَبْلَهُمْ	وَلَا	جَانٌّ 74 ج
تم دونوں جھٹلاؤ گے	نہیں	چھوا انہیں	کسی انسان نے	ان سے پہلے	اور نہ	کسی جن نے
الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 75 ج	مُتَّبِعِينَ	عَلَى رَفْرِفٍ	خُضِرٍ	
نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	تکلید لگائے ہوئے ہوں گے	قالینوں پر	سبز	
وَعَبَقْرِي	حَسَانٌ 76 ج	فَبَائِي	الْآءِ	رَبِّكُمْ	تُكذِّبِينَ 77 ج	
اور نادر	خوب صورت	تو کون سی	نعمتوں کو	اپنے رب کی	تم دونوں جھٹلاؤ گے	
تَبْرَكَ	اسْمٌ	رَبِّكَ	ذِي الْجَلْدِ	وَالْإِكْرَامِ 78 ع		
بہت بابرکت ہے	نام	آپ کے رب کا	جو بزرگی والا ہے	اور عزت والا ہے		
96 آيَاتُهَا: 56 سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ 46 رُكُوعَاتُهَا: 3						
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ						
إِذَا	وَقَعَتْ	الْوَاقِعَةُ 1 ل	لَيْسَ	لِوَقْعَتِهَا	كَاذِبَةٌ 2 م	خَافِضَةٌ
جب	واقع ہو جائے گی	واقع ہونے والی	نہیں ہے	اس کا واقع ہونا	کوئی جھوٹ	پست کرنے والی ہے
رَافِعَةٌ 3 ل	إِذَا	رُجَّتِ	الْأَرْضُ	رَجًّا 4 ل	وَبُسَّتِ	الْجِبَالُ
بلند کرنے والی ہے	جب	ہلائی جائے گی	زمین	سخت ہلایا جانا	اور ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے	پہاڑ

بَسًا ٥	فَكَانَتْ	هَبَاءً	مُنْبَثًا ٦	وَ كُنْتُمْ	أَزْوَاجًا	ثَلَاثَةً ٧
ریزہ ریزہ کیے جانا	تو ہو جائیں گے وہ	گردوغبار	منتشر	اور ہو جاؤ گے تم	جماعتوں میں	تین
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ٨	مَا	أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ٨	وَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ٩	مَّا	أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ٩	أُولَئِكَ
پس دائیں ہاتھ والے	کیا ہیں	دائیں ہاتھ والے	اور آگے بڑھنے والے	تو آگے بڑھنے والے ہیں	بہی لوگ ہیں	کیا ہیں
الْمُقَرَّبُونَ ١١	فِي جَنَّاتٍ	النَّعِيمِ ١٢	ثَلَاثَةً ١٣	مِّنَ الْأَوَّلِينَ ١٣	وَقَلِيلٌ	الْمُقَرَّبُونَ ١١
جو مقرب ہیں	باغات میں	نعمتوں والے	ایک بڑا گروہ	پہلوں میں سے	اور بہت تھوڑے	جو مقرب ہیں
مِّنَ الْأَخِيرِينَ ١٤	عَلَى سُرُرٍ	مَوْضُونََةٍ ١٥	مُتَّكِنِينَ	عَلَيْهَا	مِّنَ الْأَخِيرِينَ ١٤	عَلَى سُرُرٍ
پچھلوں میں سے	تختوں پر ہوں گے	سوئے کی تاروں سے بنے ہوئے	تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے	ان پر	پچھلوں میں سے	تختوں پر ہوں گے
مُتَّقِلِينَ ١٦	يُطَوِّفُونَ	عَلَيْهِمْ	وَلَدَانٌ	مُخَلَّدُونَ ١٧	بِأَكْوَابٍ	مُتَّقِلِينَ ١٦
آمنے سامنے	گردش کر رہے ہوں گے	ان پر	لڑکے	ہمیشہ رہنے والے	ساتھ پیالوں	آمنے سامنے
وَأَبَارِئِقَةٍ ١٨	وَكَايسٍ	مِّن مَّعِينٍ ١٨	لَا يُصَدَّعُونَ	عَنْهَا	وَلَا	وَأَبَارِئِقَةٍ ١٨
اور صراحیوں کے	اور ساغر	بہتی شراب کے	نہ وہ مردرد میں مبتلا کیے جائیں گے	اس سے	اور نہ	اور صراحیوں کے
يُزْفُونَ ١٩	وَفَاكِهَةٍ	مِمَّا	يَتَخَيَّرُونَ ٢٠	وَلَحْمٍ	طَيْرٍ	يُزْفُونَ ١٩
وہ ہمیں گے	اور پھل	اس میں سے جو	وہ پسند کریں گے	اور گوشت	پرندوں کا	وہ ہمیں گے
يَسْتَهْوُونَ ٢١	وَحُورٍ	عِينٍ ٢٢	كَأَمْثَالِ الْذُرِّ	الْمَكْنُونِ ٢٣	جَزَاءً	يَسْتَهْوُونَ ٢١
وہ خواہش کریں گے	اور گوری عورتیں	بڑی آنکھوں والی	جیسے	موتی	چھپے ہوئے	وہ خواہش کریں گے
بَسًا	كَانُوا	يَعْمَلُونَ ٢٤	لَا يَسْعَوْنَ	فِيهَا	لَعْوًا	وَلَا
اس کا جو	تھے وہ	وہ عمل کرتے	نہ وہ سہیں گے	اس میں	کوئی لغو بات	اور نہ
تھا وہ	تھے وہ	وہ عمل کرتے	نہ وہ سہیں گے	اس میں	کوئی لغو بات	اور نہ

إِلَّا	قِيْلًا	سَلَامًا	سَلَامًا	وَاصْحَابُ الْيَبِيْنِ ٢٦	مَا
مگر	کہنا	سلام	سلام	اور دائیں ہاتھ والے	کیا ہیں
اصْحَابُ الْيَبِيْنِ ٢٧	فِي سِدْرِ ٢٨	مَخْضُوْدٍ ٢٩	وَ طَلْحٍ ٣٠	مَنْضُوْدٍ ٣١	وَ ظِلِّ ٣٢
دائیں ہاتھ والے	بیریوں میں	بخیر کانٹوں کے	اور کیلوں میں	تہتہ	اور سایوں میں
مَدُوْدٍ ٣٣	وَ مَاءٍ ٣٤	مَسْكُوْبٍ ٣٥	وَ فَاكِهَةٍ ٣٦	كَثِيْرَةٍ ٣٧	لَا ٣٨
لبے	اور پانی میں	بہتے ہوئے	اور پھلوں میں	کثرت	نہ ختم ہونے والے
وَلَا ٣٩	مَنْوَعَةٍ ٤٠	وَ فُرِيْشٍ ٤١	مَرْفُوْعَةٍ ٤٢	اِنَّا ٤٣	اَنْشَاْنَهُنَّ ٤٤
اور نہ	روکے جانے والے	اور شست گاہوں میں	اونچی	بے شک ہم	پیدا کیا ہم نے انہیں
اِنْشَاءٌ ٤٥	فَجَعَلْنَهُنَّ ٤٦	اَبْكَارًا ٤٧	عُرْبًا ٤٨	اَتْرَابًا ٤٩	
نئے سرے سے پیدا کرنا	تو بنا دیا ہم نے انہیں	کنواریاں	خاندنوں کی پیاریاں	ہم عمر	
لِاصْحَابِ الْيَبِيْنِ ٥٠	ثَلَاثَةٌ ٥١	مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ٥٢	وَ ثَلَاثَةٌ ٥٣		
دائیں ہاتھ والوں کے لیے	ایک بڑا گروہ ہوگا	پہلوں میں سے	اور ایک بڑا گروہ ہوگا		
مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ٥٤	وَ اصْحَابُ الشِّمَالِ ٥٥	مَا ٥٦	اصْحَابُ الشِّمَالِ ٥٧		
پچھلوں میں سے	اور بائیں ہاتھ والے	کیا ہیں	بائیں ہاتھ والے		
فِي سَوْمٍ ٥٨	وَ حَيْمٍ ٥٩	وَ ظِلِّ ٦٠	مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ٦١	لَا ٦٢	بَارِدٍ ٦٣
سخت گرم ہوا میں	اور کھولتے پانی میں	اور سائے میں	سخت سیاہ دھوئیں کے	نہ	ٹھنڈا اور نہ
كِرِيْمٍ ٦٤	اِنَّهُمْ ٦٥	كَانُوْا ٦٦	قَبْلَ ٦٧	ذٰلِكَ ٦٨	مُتْرَفِيْنَ ٦٩
عمدہ	بے شک وہ	تھے وہ	پہلے	اس سے	خوش حال
يُصْرُوْنَ ٧٠	عَلَى الْحِنْتِ ٧١	الْعَظِيْمِ ٧٢	وَ كَانُوْا ٧٣	يَقُوْلُوْنَ ٧٤	اِيْذَا ٧٥
وہ اصرار کرتے	گناہ پر	بہت بڑے	اور تھے وہ	وہ کہا کرتے	کیا جب
					مر جائیں گے ہم



وَ كُنَّا	تُرَابًا وَّ عِظَامًا	ءَاِنَّا	كَبَعُوْنُوْنَ 47	اَوْ	اَبَاوْنَا
اور ہو جائیں گے ہم	مٹی اور ہڈیاں	کیا بے شک ہم	البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں	کیا بھلا	آباؤ اجداد ہمارے
اَلْاَوَّلُوْنَ 48	قُلْ	اِنَّ	اَلْاَوَّلِيْنَ	وَالْاٰخِرِيْنَ 49	لَجَمْعُوْعُوْنَ 50
پہلے (بھی)	کہہ دیجیے	بے شک	پہلے	اور پچھلے	البتہ جمع کیے جانے والے ہیں
اِلَى مِيْقَاتٍ	يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ 50	ثُمَّ	اِنَّكُمْ	اِيْهَا	الصَّالُّوْنَ
ایک مقرر وقت پر	معلوم دن کے	پھر	بے شک تم	اے	گمراہو
اَلْمُكْذِبُوْنَ 51	لَا كُوْنُ	مِنْ شَجَرٍ	مِّنْ زُقُوْمٍ 52	فَمَا كُوْنُ	مِنْهَا
جھٹلانے والو	البتہ کھانے والے ہو	ایک درخت سے	زقوم کے	پھر بھرنے والے ہو	اس سے
اَلْبُطُوْنَ 53	فَشْرَبُوْنَ	عَلَيْهِ	مِنَ الْحَيْمِ 54	فَشْرَبُوْنَ	شَرَبَ
پیٹوں کو	پھر پینے والے ہو	اس پر	کھولتے پانی سے	پھر پینے والے ہو	پینا
اَلْهَيْمِ 55	هٰذَا	نَزَّلَهُمْ	يَوْمَ	الدِّيْنِ 56	نَحْنُ
پیاسے اونٹ (جیسا)	یہ ہوگی	مہمانی ان کی	دن	بدلے کے	ہم نے
فَلَوْ لَا	تُصَدِّقُوْنَ 57	اَفْرَءَيْتُمْ	مَا	تُؤْنُوْنَ 58	ءَاَنْتُمْ
پس کیوں نہیں	تم تصدیق کرتے	کیا بھلا دیکھا تم نے	جو	منی تم ٹپکاتے ہو	کیا تم
اَمْ	نَحْنُ	اَلْخٰلِقُوْنَ 59	نَحْنُ	قَدَّرْنَا	بَيْنَكُمْ
یا	ہم ہیں	پیدا کرنے والے	ہم نے	مقرر کیا ہم نے	درمیان تمہارے
نَحْنُ	بِسَبُوْقِيْنَ 60	عَلٰى	اَنْ	تُبَدَّلَ	اَمْثَالَكُمْ
ہم	عاجز	اس پر	کہ	ہم بدل ڈالیں	تم جیسوں کو
وَنُنشِئُكُمْ	فِيْ مَا	لَا تَعْلَمُوْنَ 61	وَلَقَدْ	عَلِمْتُمْ	النَّشَاةَ
اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دیں تمہیں	ایسی صورت میں جو	نہیں تم جانتے	اور البتہ تحقیق	جان لیا تم نے	پیدائش

الْأُولَى	فَلَوْلَا	تَذَكَّرُونَ ﴿62﴾	أَفْرَأَيْتُمْ	مَا	تَحَرَّثُونَ ﴿63﴾	ءَأَنْتُمْ
پہلی کو	تو کیوں نہیں	تم نصیحت پکڑتے	کیا جھلا دیکھا تم نے	جو	تم بولتے ہو	کیا تم
تَزْرَعُونَهَا	أَمْ	نَحْنُ	الزُّرْعُونَ ﴿64﴾	لَوْ	نَشَاءُ	لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا
اگاتے ہو اسے	یا	ہم ہیں	اگانے والے	اگر	ہم چاہیں	البتہ کر دیں ہم اسے
فَظَلَّمْتُمْ	تَفَكَّهُونَ ﴿65﴾	إِنَّا	لَبُغْرَمُونَ ﴿66﴾	بَلْ	نَحْنُ	مَحْرُومُونَ ﴿67﴾
تورہ جاؤ تم	تم باتیں بناتے	بے شک ہم	البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں	بلکہ	ہم تو	محروم کر دیئے گئے ہیں
أَفْرَأَيْتُمْ	الْمَاءَ الَّذِي	تَشْرَبُونَ ﴿68﴾	ءَأَنْتُمْ	أَنْزَلْنَاهُ	مِنَ السَّمَاءِ	مِنْ الْبُرْنِ
کیا جھلا دیکھا تم نے	پانی کو	وہ جو	تم پیتے ہو	کیا تم	اتارتے ہو تم اسے	بادل سے
أَمْ	نَحْنُ	الْمُنزِلُونَ ﴿69﴾	لَوْ	نَشَاءُ	جَعَلْنَاهُ	أَجَاثًا
یا	ہم ہیں	اتارنے والے	اگر	ہم چاہیں	بنادیں ہم اسے	سخت کھارا
تَشْكُرُونَ ﴿70﴾	أَفْرَأَيْتُمْ	النَّارَ الَّتِي	تُورُونَ ﴿71﴾	ءَأَنْتُمْ	أَنْشَأْتُمْ	
تم شکر کرتے	کیا پھر دیکھا تم نے	آگ کو	وہ جو	تم سگاتے ہو	کیا تم نے	پیدا کیا تم نے
شَجَرَتَهَا	أَمْ	نَحْنُ	الْمُنشِئُونَ ﴿72﴾	نَحْنُ	جَعَلْنَاهَا	تَذَكَّرَةً
درخت اس کا	یا	ہم ہیں	پیدا کرنے والے	ہم نے	بنایا ہم نے اسے	ایک نصیحت
وَمَتَاعًا	لِلْمُقْوِينَ ﴿73﴾	فَسَبِّحْ	بِاسْمِ	رَبِّكَ	الْعَظِيمِ ﴿74﴾	فَلَا
اور فائدے کی چیز	مسافروں کے لیے	پس تسبیح کیجیے	نام کی	اپنے رب کے	جو نہایت عظمت والا ہے	پس نہیں
أُقْسِمُ	بِوَقْعِ	النُّجُومِ ﴿75﴾	وَإِنَّهُ	لَقَسَمٌ	لَوْ	تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿76﴾
میں قسم کھاتا ہوں	گرنے کی جگہوں کی	ستاروں کے	اور بے شک وہ	البتہ قسم ہے	اگر	تم جانتے ہو
إِنَّهُ	لَقُرْآنٌ	كَرِيمٌ ﴿77﴾	فِي	كِتَابٍ	مَكْنُونٍ ﴿78﴾	لَا
بے شک وہ	یقیناً قرآن ہے	عزت والا	ایک کتاب میں	مخفوظ	نہیں چھوتے اسے	مگر

الْمُطَهَّرُونَ 79 ط	تَنْزِيلٌ	مِّن رَّبِّ	الْعَالَمِينَ 80	أَفِيْهِذَا الْحَدِيثِ
جو بہت پاک ہیں	نازل کردہ ہے	رب کی طرف سے	تمام جہانوں کے	کیا جھلا اس بات سے
أَنْتُمْ	مُدْهِنُونَ 81 لا	وَتَجْعَلُونَ	رِزْقَكُمْ	أَنْتُمْ
تم	بے پروائی کرنے والے ہو	اور تم بناتے ہو	حصہ اپنا	یہ کہ تم
فَلَوْ لَا	إِذَا	بَلَغَتْ	الْحُلُقُومَ 83 لا	وَأَنْتُمْ
پس کیوں نہیں	جب	پہنچ جاتی ہے (جان)	حلق کو	اور تم
وَنَحْنُ	أَقْرَبُ	إِلَيْهِ	مِنْكُمْ	وَلَكِنْ
اور ہم	زیادہ قریب ہوتے ہیں	اس کے	تم سے	اور لیکن
إِنْ	كُنْتُمْ	غَيْرَ مَدِينِينَ 86 لا	تَرْجِعُونَهَا	إِنْ
اگر	ہو تم	نہیں بدل دیئے جانے والے	تم لوٹاتے اسے	اگر
فَأَمَّا	إِنْ	كَانَ	مِنَ الْمُقَرَّبِينَ 88 لا	فَرَوْحٌ
پس لیکن	اگر	ہے وہ	مقربین میں سے	تورااحت ہے
نَعِيمٌ 89	وَأَمَّا	إِنْ	كَانَ	مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ 90 لا
نعمتوں والی	اور لیکن	اگر	ہے وہ	دائیں جانب والوں میں سے
مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ 91 ط	وَأَمَّا	إِنْ	كَانَ	مِنَ الْمَكْذِبِينَ
(کہ تم) دائیں جانب والوں میں سے ہو	اور لیکن	اگر	ہے وہ	جھٹلانے والوں میں سے
الضَّالِّينَ 92 لا	فَنُزِّلُ	مِّنْ حَمِيمٍ 93 لا	وَتَصْلِيَةٌ	جَحِيمٍ 94
گمراہ لوگوں میں سے	تو مہمانی ہے	کھولتے پانی سے	اور جلنا ہے	جہنم میں
لَهُوَ	حَقٌّ	الْيَقِينِ 95 ج	فَسَبِّحْ	بِاسْمِ
البتہ وہی ہے	جو حق ہے	یقینی	پس تسبیح کیجیے	نام کی
ع	الْعَظِيمِ 96	رَبِّكَ	ع	ع
	جو نہایت عظمت والا ہے	اپنے رب کے		

آيَاتُهَا: 29 سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدَنِيَّةٌ 94 زُكُوتَاتُهَا: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ	لِلَّهِ	مَا	فِي السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ ٢	وَهُوَ	الْعَزِيزُ
تسبیح کی ہے	اللہ کے لیے	اس چیز نے جو	آسمانوں میں	اور زمین میں ہے	اور وہ	بہت زبردست ہے

الْحَكِيمُ ①	لَهُ	مُلْكُ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ ٢	يُحْيِي	وَيُمِيتُ ٢
خوب حکمت والا ہے	اسی کے لیے ہے	بادشاہت	آسمانوں	اور زمین کی	وہ زندہ کرتا ہے	اور وہ موت دیتا ہے

وَهُوَ	عَلَى	كُلِّ	شَيْءٍ	قَدِيرٌ ②	هُوَ	الْأَوَّلُ	وَالْآخِرُ
اور وہ	اوپر	ہر	چیز کے	خوب قدرت رکھنے والا ہے	وہی	اول ہے	اور آخر ہے

وَالظَّاهِرُ	وَالْبَاطِنُ ٢	وَهُوَ	بِكُلِّ	شَيْءٍ	عَلِيمٌ ③	هُوَ	الَّذِي
اور ظاہر ہے	اور باطن ہے	اور وہ	ہر	چیز کو	خوب جاننے والا ہے	وہی ہے	جس نے

خَلَقَ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	فِي سِتَّةِ	أَيَّامٍ	ثُمَّ	اسْتَوَى
پیدا کیا	آسمانوں	اور زمین کو	چھ	دنوں میں	پھر	وہ بلند ہوا

عَلَى الْعَرْشِ ٤	يَعْلَمُ	مَا	يَلْبِغُ	فِي الْأَرْضِ	وَمَا	يَخْرُجُ	مِنْهَا
عرش پر	وہ جانتا ہے	جو کچھ	داخل ہوتا ہے	زمین میں	اور جو کچھ	نکلتا ہے	اس سے

وَمَا	يَنْزِلُ	مِنَ السَّمَاءِ	وَمَا	يَعْرُجُ	فِيهَا ٥	وَهُوَ	مَعَكُمْ
اور جو کچھ	اترتا ہے	آسمان سے	اور جو کچھ	چڑھتا ہے	اس میں	اور وہ	تمہارے ساتھ ہے

أَيْنَ مَا	كُنْتُمْ ٤	وَاللَّهُ	بِمَا	تَعْمَلُونَ	بَصِيرٌ ④	لَهُ
جہاں کہیں	ہو تم	اور اللہ	اسے جو	تم عمل کرتے ہو	خوب دیکھنے والا ہے	اسی کے لیے ہے

مُلْكُ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ ٤	وَإِلَى اللَّهِ	تُرْجَعُ	الْأُمُورُ ⑤	يُوجِبُ
بادشاہت	آسمانوں	اور زمین کی	اور اللہ ہی کی طرف	لوٹائے جاتے ہیں	سب کام	وہ داخل کرتا ہے

الْيَلِّ فِي النَّهَارِ	وَيُوجِجُ	النَّهَارَ فِي الْيَلِّ <sup>ط</sup>	وَهُوَ	عَلِيمٌ
رات کو	اور وہ داخل کرتا ہے	دن کو	رات میں	اور وہ خوب جاننے والا ہے
بِذَاتِ الصُّدُورِ <sup>٦</sup>	أَمِنُوا	بِاللَّهِ	وَرَسُولِهِ	وَأَنْفِقُوا
سینوں والے (بھید)	ایمان لاؤ	اللہ پر	اور اس کے رسول پر	اور خرچ کرو
مِمَّا	جَعَلَكُمْ	مُسْتَخْلَفِينَ	فِيهِ <sup>ط</sup>	فَالَّذِينَ
اس سے جو	اس نے بنایا تمہیں	جانشین	اس (مال) میں	تو وہ لوگ جو
أَمِنُوا	مِنْكُمْ	وَأَنْفِقُوا	وَالرَّسُولُ	لَهُمْ
تم میں سے	اور انہوں نے خرچ کیا	اور انہوں نے خرچ کیا	اور انہوں نے خرچ کیا	ان کے لیے
أَجْرٌ	كَبِيرٌ <sup>٧</sup>	وَمَا	لَكُمْ	لَا تُؤْمِنُونَ
اجر ہے	بہت بڑا	اور کیا ہے	تمہیں	نہیں تم ایمان لاتے
يَدْعُوكُمْ	لِتُؤْمِنُوا	بِرَبِّكُمْ	وَقَدْ	أَخَذَ
وہ دعوت دیتا ہے تمہیں	کہ تم ایمان لاؤ	اپنے رب پر	حالانکہ تحقیق	اس نے لیا ہے
كُنْتُمْ	مُؤْمِنِينَ <sup>٨</sup>	هُوَ	الَّذِي	يُنزِّلُ
ہو تم	ایمان لانے والے	وہی ہے	جو	نازل کرتا ہے
بَيِّنَاتٍ	لِيُخْرِجَكُمْ	مِنَ الظُّلُمَاتِ	إِلَى النُّورِ <sup>ط</sup>	وَإِنَّ
واضح	تا کہ وہ نکالے تمہیں	اندھیروں سے	طرف روشنی کے	اور بے شک
لِرَعُوفٍ	رَحِيمٍ <sup>٩</sup>	وَمَا	لَكُمْ	أَلَّا
البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے	نہایت رحم کرنے والا ہے	اور کیا ہے	تمہیں	کہ نہیں
وَاللَّهُ	مِيرَاثُ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ <sup>ط</sup>	لَا
اور اللہ ہی کے لیے ہے	میراث	آسمانوں	اور زمین کی	نہیں
مَنْ	أَنْفَقَ	مِنْ قَبْلِ	الْفَتْحِ	وَقَتْلِ
وہ جس نے	خرچ کیا	پہلے	فتح کے	اور جنگ کی
أَعْظَمُ	دَرَجَةً	أَوْلِيكَ	أَعْظَمُ	دَرَجَةً
زیادہ بڑے	درجے میں	یہی لوگ ہیں	زیادہ بڑے	درجے میں

مِّنَ الَّذِينَ	أَنْفَقُوا	مِنْ بَعْدُ	وَقَتَلُوا	وَكَلًّا	وَعَدَ	اللَّهُ
ان سے جنہوں نے	خرچ کیا	اس کے بعد	اور انہوں نے جنگ کی	اور ہر ایک سے	وعدہ کیا	اللہ نے
الْحُسْنَى	وَاللَّهُ	بِسَاءٍ	تَعْمَلُونَ	خَيْرٌ	مَنْ ذَا الَّذِي	يُقْرِضُ
بھلائی کا	اور اللہ	اس کی جو	تم عمل کرتے ہو	خوب خبر رکھنے والا ہے	کون ہے جو	قرض دے گا
اللَّهُ	قَرْضًا	حَسَنًا	فِيضِعْفَهُ	لَهُ	وَلَهُ	أَجْرٌ
اللہ کو	قرض	اچھا	پھر وہ دو گنا کرے گا اسے	اس کے لیے	اور اسی کے لیے ہے	اجر
يَوْمَ	تَرَى	الْمُؤْمِنِينَ	وَالْمُؤْمِنَاتِ	يَسْعَى	نُورَهُمْ	بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
جس دن	آپ دیکھیں گے	مومن مردوں	اور مومن عورتوں کو	دوڑتا ہوگا	نوران کا	ان کے آگے آگے
وَبَايَعَانِهِمْ	بِشْرِكُمْ	الْيَوْمَ	جَنَّتْ	تَجْرِي	مِنْ تَحْتِهَا	الْأَنْهَارُ
اور ان کی دائیں جانب	خوش خبری ہے تمہیں	آج کے دن	ایسے باغات کی	بہتی ہیں	جن کے نیچے سے	نہریں
خَلِيدِينَ	فِيهَا	ذَلِكَ	هُوَ	الْفَوْزُ	الْعَظِيمُ	يَوْمَ
ہمیشہ رہنے والے ہیں	ان میں	یہی ہے	وہ	کامیابی	بہت بڑی	جس دن
الْمُنْفِقُونَ	وَالْمُنْفِقَاتُ	لِلَّذِينَ	آمَنُوا	انظُرُونَا	نَقْتَبِسُ	
منافق مرد	اور منافق عورتیں	انہیں جو	ایمان لائے	انتظار کرو ہمارا	ہم روشنی حاصل کریں	
مِنْ نُورِكُمْ	قِيلَ	ارْجِعُوا	وَرَاءَكُمْ	فَالْتَبِسُوا	نُورًا	فَضْرِبَ
تمہارے نور سے	کہہ دیا جائے گا	لوٹ جاؤ	اپنے پیچھے	پھر تلاش کرو	نور کو	تو حائل کر دی جائے گی
بَيْنَهُمْ	بِسُورٍ	لَّهُ	بَابٌ	بَاطِنُهُ	فِيهِ	الرَّحْمَةُ
درمیان ان کے	ایک دیوار	اس کا	ایک دروازہ ہوگا	اس کی اندرونی جانب	جس میں	رحمت ہوگی
مِنْ قِبَلِهِ	الْعَذَابُ	يُنَادُونَهُمْ	أَلَمْ	نَكُنْ	مَعَكُمْ	قَالُوا
اس طرف سے	عذاب ہوگا	وہ پکاریں گے انہیں	کیانہ	تھے ہم	ساتھ تمہارے	وہ کہیں گے

بَلَىٰ	وَلَكِنَّكُمْ	فَتَنَّتُمْ	أَنْفُسَكُمْ	وَتَرَبَّصْتُكُمْ	وَأَرْبَبْتُمْ
کیوں نہیں	اور لیکن تم	فتنے میں ڈالائے	اپنے آپ کو	اور انتظار میں رہے تم	اور شک کیا تم نے
وَعَزَّيْتُمْ	الْأَمَانِيُّ	حَتَّىٰ	جَاءَ	أَمْرُ	اللَّهِ
اور دھوکے میں ڈالائے	تمناؤں نے	یہاں تک کہ	آ گیا	فیصلہ	اللہ کا
بِاللَّهِ	الْغُرُورُ ⑭	فَالْيَوْمَ	لَا يُؤْخَذُ	مِنْكُمْ	فِدْيَةٌ
اللہ کے بارے میں	اس بڑے دھوکے باز نے	تو آج	نہ لیا جائے گا	تم سے	کوئی فدیہ
مِنَ الَّذِينَ	كَفَرُوا ٭	مَأْوِكُمْ	النَّارُ ٭	هِيَ	مَوْلِكُمْ ٭
ان سے جنہوں نے	کفر کیا	ٹھکانہ تمہارا	آگ ہے	وہی	دوست ہے تمہاری
الْبَصِيرُ ⑮	أَلَمْ	يَأْنِ	لِلَّذِينَ	آمَنُوا	أَنْ
لوٹنے کی جگہ	کیا نہیں	وقت آیا	ان کے لیے جو	ایمان لائے	کہ
لِذِكْرِ	اللَّهِ	وَمَا	نَزَلَ	مِنَ الْحَقِّ	وَلَا
ذکر کے لیے	اللہ کے	اور جو	نازل ہوا	حق میں سے	اور نہ
أَوْتُوا	الْكِتَابَ	مِنْ قَبْلُ	فَطَالَ	عَلَيْهِمْ	الْأَمَدُ
دیئے گئے	کتاب	اس سے قبل	تو طویل ہو گئی	ان پر	مدت
وَكَثِيرٌ	مِنْهُمْ	فَسِقُونَ ⑯	إِعْلَمُوا	أَنَّ	اللَّهَ
اور اکثر	ان میں سے	نافرمان ہیں	جان لو	بے شک	اللہ
بَعْدَ	مَوْتِهَا ٭	قَدْ	بَيَّنَّا	لَكُمْ	الْآيَاتِ
بعد	اس کی موت کے	تحقیق	بیان کر دیں ہم نے	تمہارے لیے	آیات
إِنَّ	الْمُصَدِّقِينَ	وَالْمُصَدِّقَاتِ	وَاقْرَءُوا	اللَّهَ	قَرْضًا
بے شک	صدقہ کرنے والے مرد	اور صدقہ کرنے والی عورتیں	اور جنہوں نے قرض دیا	اللہ کو	قرض

يُضَعْفُ لَهُمْ	وَلَهُمْ	أَجْرٌ كَرِيمٌ 18	وَالَّذِينَ	آمَنُوا	بِاللَّهِ
دوگنا کر دیا جائے گا	ان کے لیے	اور انہی کے لیے ہے	اجر	عزت والا	اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر
وَرُسُلِهِ	أُولَئِكَ	هُمْ	الصِّدِّيقُونَ ط	وَالشُّهَدَاءُ	عِنْدَ رَبِّهِمْ ط
اور اس کے رسولوں پر	یہی لوگ ہیں	وہ	جو سچے ہیں	اور گواہی دینے والے ہیں	اپنے رب کے پاس
لَهُمْ	أَجْرُهُمْ	وَنُورُهُمْ ط	وَالَّذِينَ	كَفَرُوا	وَكَذَّبُوا
انہی کے لیے ہے	اجران کا	اور نور ان کا	اور وہ جنہوں نے	کفر کیا	اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو
أُولَئِكَ	أَصْحَابُ	الْجَحِيمِ ع	إِعْلَمُوا	أَنَّ	الْحَيَاةَ
یہی لوگ ہیں	ساتھی	جہنم کے	جان لو	بے شک	زندگی دنیا کی کھیل
وَالَهُمْ	وَزِينَةٌ	وَتَفَاخُرٌ	بَيْنَكُمْ	وَتَكَاتُرٌ	فِي
اور تمہارا	اور زینت	اور باہم فخر کرنا ہے	آپس میں	اور ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے	مالوں میں
وَالْأَوْلَادِ ط	كَشَلٍ	غَيْثٍ	أَعْجَبَ	الْكَفَّارَ	نَبَاتَهُ
اور اولاد میں	مانند مثال	بارش کے ہے	خوش کر دیا	کسانوں کو	اس کی نباتات نے پھر
يَهِيْجُ	فِتْرَتَهُ	مُصْفَرًّا	ثُمَّ	يَكُونُ	حَطَامًا ط
وہ خشک ہو جاتی ہے	پھر آپ دیکھتے ہیں اسے	کہ زرد ہو گئی	پھر	وہ ہو جاتی ہے	چورا چورا اور آخرت میں
عَذَابٌ	شَدِيدٌ لا	وَمَغْفِرَةٌ	مِّنَ	اللَّهِ	وَرِضْوَانٌ ط
عذاب ہے	سخت	اور بخشش	اللہ کی طرف سے	اور رضامندی	اور نہیں زندگی
الدُّنْيَا	إِلَّا	مَتَاعٌ	الْغُرُورِ 20	سَابِقُونَ	إِلَى
دنیا کی	مگر	سامان	دھوکے کا	دوڑو	طرف بخشش کے اپنے رب کی
وَجَنَّةٍ	عَرْضُهَا	كَعَرْضِ	السَّمَاءِ	وَالْأَرْضِ	لِلَّذِينَ
اور جنت کے	چوڑائی جس کی	جیسے چوڑائی	آسمان	اور زمین کی	ان کے لیے جو وہ تیار کی گئی ہے



أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥	ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ٥	وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢١	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ	مِنْ	إِن تَبْرَأْهَا ٥	إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٢٢	لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ٥	مُخْتَالٍ فَخُورٍ ٢٣	الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ٥	وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٢٤	لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْهِيَازَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ٥	وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْإِيمَانِ ٥																																																														
ایمان لائے	اللہ پر	اور اس کے رسولوں پر	یہ	فضل ہے	اللہ کا	وہ عطا کرتا ہے اسے	جسے	وہ چاہتا ہے	اور اللہ	فضل والا ہے	بہت بڑے	نہیں	پہنچتی	کوئی مصیبت	زمین میں	اور نہ	تمہارے نفسوں میں	مگر	ایک کتاب میں ہے	اس سے پہلے	کہ	ہم پیدا کریں اسے	بے شک	یہ	اللہ پر	بہت آسان ہے	تا کہ نہ	تم افسوس کرو	اس پر جو	کھوجائے تم سے	اور نہ	تم اتراؤ	اس پر جو	اس نے دیا تمہیں	اور اللہ	نہیں	وہ پسند کرتا	ہر	خود پسند	بہت فخر جتانے والے کو	وہ لوگ جو	بخل کرتے ہیں	اور وہ حکم دیتے ہیں	لوگوں کو	بخل کا	اور جو کوئی	منہ پھیرتا ہے	تو بے شک	اللہ	وہی ہے	بہت بے نیاز	خوب تعریف والا	البتہ تحقیق	بھیجا ہم نے	اپنے رسولوں کو	ساتھ واضح نشانہوں کے	اور نازل کی ہم نے	ساتھ ان کے	کتاب	اور میزان	تا کہ قائم ہوں	لوگ	انصاف پر	اور اتارا ہم نے	لوہا	جس میں	زور ہے	سخت	اور کئی فائدے ہیں	لوگوں کے لیے	اور تا کہ جان لے	اللہ	کون	مدد کرتا ہے اس کی

وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ط	إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ع (25)	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا	اور اس کے رسولوں کی	غائبانہ	بے شک	اللہ	بہت قوت والا ہے	بہت زبردست ہے	اور البتہ تحقیق	بھیجا ہم نے
نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ	نوح	اور ابراہیم کو	اور رکھی ہم نے	ان دونوں کی اولاد میں	نبوت	اور کتاب	تو کچھ ان میں سے			
مُهْتَدِيًّا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (26)	ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم	مُهْتَدِيًّا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ	ہدایت یافتہ ہیں	اور اکثر	ان میں سے	فاسق ہیں	پھر	پے در پے بھیجے ہم نے	ان کے آثار پر	
بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ل	اپنے رسول	اور پیچھے بھیجا ہم نے	عیسیٰ ابن مریم کو	اور عطا کی ہم نے اسے	انجیل					
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ط	اور ڈال دیا ہم نے	دلوں میں	ان لوگوں کے جنہوں نے	پیروی کی اس کی	شفقت	اور رحمت کو				
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ	اور رہبانیت/ترک دنیا	انہوں نے ایجاد کر لیا اسے	نہیں فرض کیا تھا ہم نے اسے	ان پر	مگر	حاصل کرنے کو				
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا	رضا	اللہ کی	تو نہیں	انہوں نے خیال رکھا اس کا	جیسے حق تھا	اس کا خیال رکھنے کا	تو دیا ہم نے			
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ ج وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (27)	ان لوگوں کو جو	ایمان لائے	ان میں سے	اجران کا	اور اکثر	ان میں سے	فاسق ہیں			
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ	اے لوگو جو	ایمان لائے ہو	ڈرو	اللہ سے	اور ایمان لاؤ	اس کے رسول پر	وہ دے گا تمہیں	دو حصے		
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ	اپنی رحمت میں سے	اور وہ بنا دے گا	تمہارے لیے	ایک نور	تم چلو گے	ساتھ اس کے	اور وہ بخش دے گا			

لَكُمْ ط	وَاللَّهُ	غَفُورٌ	رَّحِيمٌ 28	لِّعَلَّا	يَعْلَمَ	أَهْلُ الْكِتَابِ
تمہیں	اور اللہ	بہت بخشنے والا ہے	نہایت رحم کرنے والا ہے	تاکہ	جان لیں	اہل کتاب
أَلَّا	يَقْدِرُونَ	عَلَى شَيْءٍ	مِّنْ فَضْلِ	اللَّهِ	وَأَنَّ	الْفَضْلَ
یہ کہ نہیں	وہ قدرت رکھتے	کسی چیز پر	فضل میں سے	اللہ کے	اور بے شک	فضل
بِيَدِ اللَّهِ	يُؤْتِيهِ	مَنْ	يَشَاءُ ط	وَاللَّهُ	ذُو الْفَضْلِ	الْعَظِيمِ 29 ع
اللہ کے ہاتھ میں ہے	وہ دیتا ہے اسے	جسے	وہ چاہتا ہے	اور اللہ	فضل والا ہے	بہت بڑے